



سوال

(154) امام کا بوقت ”حی علی الصلوٰۃ، وحی علی الفلاح“، کے اٹھ کھڑے ہونا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امام کا بوقت ”حی علی الصلوٰۃ، وحی علی الفلاح“، کے اٹھ کھڑے ہونے اور ”قد قامت الصلوٰۃ“ کے وقت تحریم باندھنا تکبیر کہہ کر بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کی اصل کیا ہے؟ اور یہ بات قوی ہے یا ضعیف؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ حنفی مذہب کا فتویٰ ہے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں، احادیث صحیحہ سے صرف یہ ثابت ہے کہ آل حضرت ﷺ تکبیر پوری ہو جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، ہر مسلمان کو آل حضرت ﷺ کے طریقہ پر چلنا چاہیے۔ (ترجمان فروری 1957ء)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 242

محدث فتویٰ